

بچوں کی تربیت، بنیادی امور

بدرالاسلام

بچوں کی تعلیم کا ایک اہم دائرہ وہ تربیت ہے جو انہیں اپنے خاندان سے حاصل ہوتی ہے۔ اس تربیت کا اہم ترین پہلو بچوں (ولاد) کے ساتھ والدین بالخصوص ماں کے طرزِ عمل سے متعلق ہے۔ اس ضمن میں چند اصولی نکات درج ذیل ہیں:

○ بنیادی دینی تعلیم: ابتدائی عمر ہی سے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیمات سے واقف کرایا جائے۔ قرآن کی تعلیم کا شوری انتظام اور حلال اور حرام کے احکامات سے واقفیت فراہم کی جائے۔ سات سال کی عمر سے نماز کا اور روزہ رکھنے کے قابل عمر کو چھپنے پر روزے کا عادی بنایا جائے۔ بچوں کو بالکل ابتداء سے اللہ سے تقویٰ اور اس کے سامنے تمام کاموں (اعمال) کے لیے جواب دہ ہونے کا تصور پیدا کرنا، اور ان میں یہ احساس جگانا ضروری ہے کہ اللہ ہر وقت ان کی گمراہی کر رہا ہے۔

○ اخلاقی تربیت: بچوں کو ابتدائی عمر سے ہی اعلیٰ اخلاق کا عادی بنانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ بچپن کی عادتیں بڑے ہونے پر بخت ہوتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچپن ہی سے انہیں سچائی، امانت داری، بہادری، احسان، بزرگوں کی عزت، پڑوسیوں سے بہتر سلوک، دوستوں کے حقوق کی پاس داری اور مستحق لوگوں کی مدحیے اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا حامل بنایا جائے۔ پھر انہیں ہرے اخلاق مثلاً جھوٹ، چوری، گالی گلوج اور بے راہ روی سے بختی سے بچایا جائے اور اُنلیں عمر سے ہی محنت و مشقت کا عادی بنایا جائے اور عیش کو شی و آرام پسندی سے دور رکھا جائے۔

بچوں کی تربیت نبیادی امور

○ جسمانی تربیت: والدین کی طرف سے بچوں کی جسمانی نشوونما، غذا اور آرام کا خیال رکھا جائے اور انھیں ورزش کا عادی بنا�ا جائے۔ جسمانی پیاریوں اور جائز ضروریات کو پورا کرنے کی حقیقت مقدور رکھش کی جائے۔

چار بنیادی باتیں جن سے والدین کے لیے پرہیز کرنا لازم ہے:

○ تحفیر آمیز سلوک: بچوں کی اصلاح و تربیت میں عجلت اور جلد بازی کا مظاہر کرنے کے بجائے صبر و استقامت کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ بچوں کی اہانت یا تحفیر کرنے سے گریز کیا جائے۔

○ سزا میں بھے اعتدالی: بالکل سزا دینا اور بہت زیادہ سزا دینا دونوں باتیں غلط ہیں۔ بچوں کے ساتھ محبت و شفقت اور نرمی کا برپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور معقول حد تک سرزنش کا بھی ایک مقام ہے۔ ان دونوں رویوں میں اعتدال لازم ہے۔

○ بھے جا لاذ پیار: بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرنا، غیر ضروری لاذ پیار انھیں ضدی اور خود سرپناتا ہے۔ اس میں اعتدال ضروری ہے۔

○ بچوں کو ایک دوسرے ہو توجیح دینا: ایک ہی گھر میں دو بچوں یا لڑکوں اور لڑکیوں میں سے ایک کو دوسرے پروفیشن دینا غیر اسلامی رویہ ہے؛ جس سے بچے بہت سے نفیاتی عوارض میں بھلا ہو کر اپنی پسندی اور انتقام پسندی کا فکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریضانہ رویے سے اجتناب لازم ہے۔

ان اصولی نکات کے علاوہ چند عملی اقدامات جن پر والدین آسانی سے عمل کر سکتے ہیں:

۱- اپنے خاندان میں بالخصوص بچوں کے ساتھ مکملہ حد تک زیادہ وقت گزارا جائے۔ اپنی معاشی جدوجہد و دیگر مصروفیات کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ لازماً کچھ وقت اپنے الی خانہ کے ساتھ گزارا جاسکے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت مال اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، تربیت کا تمام تر بوجھ مال پر ڈال دینا ایک نامناسب اور غیر معقول طریقہ ہے۔ مدرسے میں بچوں کی مصروفیات دوستوں کی صحبت وغیرہ سے واقفیت کے لیے ضروری ہے کہ والدین ان کے ساتھ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت گزاریں۔

بچوں کی تربیت بنیادی امور

۲- بچوں کو سخت کوشی اور محنت کا عادی بنانے کے لیے انھیں ایک درمیانے معیار کی زندگی کا عادی بنایا جائے تاکہ وہ ایک عام انسان جسمی پر مشقت زندگی کا تجربہ حاصل کر سکیں۔

۳- اذل تو جیب خرچ دینے سے بچا جائے اور بچوں کی ایسی ضروریات کو خود پورا کیا جائے اور اگر بچوں کو جیب خرچ دیا جائے تو پھر اسے ڈپلن کا پابند بنایا جائے۔ بچوں سے اس رقم کا حساب بھی پوچھا جائے تاکہ ان میں بچپن سے ہی کفاریت شعاراتی بچت اور غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کی عادت پروان چڑھے اور جواب دہی کا احساس پیدا ہو۔ والدین کی طرف سے اپنے بچوں کو آرام پہنچانے کی خواہش بھاجا ہے۔ مگر ابتداء سے بغیر محنت کے آرام طلب ہانا، ان کے مستقبل کے ساتھ ٹکنیکیں مذاق ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ان کے کپڑوں اور جوتوں پر اخراجات میں اعتدال رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ تعلیمی ادارے میں مختلف معماشی و سماجی پس منظر رکھنے والے طلبہ و طالبات ہوتے ہیں، اس طرح ان میں غیر مطلوب مقابلہ آرائی کو روکا جاسکتا ہے۔

۴- ابتداء ہی سے بچوں سے خود انحصاری (self reliance) یعنی اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کرایا جائے۔ اگر معماشی وسائل میں وسعت بھی حاصل ہو تب بھی بچوں کو اپنے کام کرنے یعنی جوتے صاف کرنے کر کے کوتزیب دینے کی عادت ڈالی جائے۔

۵- والدین کا یہ بھی فرض ہے کہ بچوں کو اپنے بزرگوں کی خدمت کی طرف متوجہ کرتے رہیں۔

۶- بچوں کی مصروفیات اور ان کے دوستوں کو جانتا ضروری ہے۔ جرائم کا ارتکاب اور نشہ آور چیزوں کا استعمال غلط صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے بچے کے دوستوں پر گہری نظر رکھنا والدین کی لازمی ذمہ داری ہے۔

۷- بچوں کے سامنے مدرسے یا اساتذہ یا دوسرے عزیزوں کی برائی نہ کی جائے۔ اگر جائز شکایت ہو تو متعلقہ ذمہ داران سے گفتگو کی جائے۔ مگر بچوں کے سامنے بھی ان کے اساتذہ کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے۔ والدین اپنے بچوں کے اساتذہ کی عزت کریں گے تو بچے بھی اس کا اچھا اثر قبول کریں گے۔

۸- اپنے بچوں کی غلطیوں اور جرائم کی صفائی نہیں پیش کرنی چاہیے۔ بچوں کو غلطی کا احساس دلانا اور حسب موقع تاویب انھیں اصلاح کا موقع فراہم کرے گی اور وہ عدل، انصاف اور

اعتدال کے تقاضوں سے واقف ہوں گے۔

۹- ثیلی ویرین اور اشترنیٹ کے حوالے سے متوازن رویہ اپنا ضروری ہے۔ اس کے لیے والدین کو خود اپنے آپ کو علم کا پابند بناتا ہو گا، تعلیمی اور معلوماتی پروگرام سے استفادہ اور اجھے تفسیکی پروگراموں پر بچوں سے جادل خیال کے ذریعے ثبت اور منقی پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہیے۔ ٹی وی اور کمپیوٹر کو اسکی چگرد رکھنا چاہیئے جہاں سب آتے جاتے ہوں تاکہ لغو اور غیر اخلاقی پروگرام دیکھنے کا امکان نہ رہے۔

۱۰- ٹی وی اور کمپیوٹر کتابوں کا فتح المبدل نہیں بن سکتے۔ اچھی کتب اور رسائل بچوں کی شخصیت سازی میں غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں اپنے بچوں میں مطالعے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ والدین انھیں اچھی کتابیں اور رسائل فراہم کریں اور ان کے لیے ذاتی لامہ بری بنا کیں، ان کے نصاب کے مطالعے اور دیگر کتب کے مطالعے پر نظر رکھیں۔ خود بچوں کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے جیب خرچ سے رقم ہیں انداز کر کے کتابیں خریدیں۔

۱۱- بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا کیا جائے تاکہ ملک و ملٹی اور انسانیت کو ان کی ذات سے فائدہ ہو۔ موجودہ دور میں ہر شخص اپنے حقوق کے بارے میں بہت حساس ہے، مگر اپنے فرائض کی ادائیگی کے بارے میں انجان بن جاتا ہے، اس رویے کو تعلیمی عمل کے دوران ہی تبدیل کرنا ہو گا۔

۱۲- بچوں میں عوامی الملائک کی حفاظت کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔ ملک میں پارک، عوامی ٹرانسپورٹ، راستوں اور سرکاری عمارتوں وغیرہ کا حال سب کے سامنے ہے۔ ہر کوئی اس کے نقصان پر چلا ہوا ہے۔ (پارک میں کھیلنے کا سامان چند دنوں میں ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، بسوں کی سیٹیں چڑاڑ دی جاتی ہیں اور اسٹریٹ لائٹس بچوں کی نشانہ بازی کی مشق کا ہدف قرار پاتی ہیں)۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ معاشرے میں قومی جایزاد کا تصور بیدار نہیں ہے۔ اسلام ان الملائک کے بارے میں امانت دار ہونے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور دے کر اس کی حفاظت کراتا ہے۔

۱۳- بچوں میں سماجی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔ اسکوں کی فیس ہو، میوہ ملکیکس ہو یا اکمیکس، اس ضمن میں والدین اپنے عمل سے بچوں کے لیے غمودہ پیش کریں اور

انھیں عوامی واجبات کو بروقت ادا کرنے کی تلقین کی جائے۔

۱۳۔ گھر میں ایک بہتر ماحول قائم کیا جائے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بالخصوص بچوں کے سامنے غصے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں۔ خاندان کے بڑوں میں باہم میل جوں ایک دوسرے کی قدر و منزالت اور احترام بچوں پر خوش گوارا راڑتا ہے۔

۱۴۔ قول فعل میں تقاضا سے پرہیز لازم ہے، بچے اپنے بڑوں کے اعمال سے غیر محضوں طریقے سے بہت کچھ سکھتے ہیں۔ ماں باپ اور دیگر بڑوں کا طرزِ عمل بچوں کی شخصیت کو بناتا ہے۔ والدین کو سچائی، امانت، داری وغیرہ کے حوالے سے معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور بظاہر نقصان ہی ہوتا نظر آ رہا ہو اپنے عمل کو درست رکھنا چاہیے۔

۱۵۔ والدین عموماً اپنے بچوں سے اونچی توقعات وابستہ کرتے ہیں۔ مگر جب وہ اس معیار پر پورے نہیں اُترتے تو والدین مایوس ہو جاتے ہیں اور بچوں سے ناراض ہو کر جھنجلاہٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح والدین اور بچے دونوں احساسِ مکتری اور چرچڑیے پن کا ٹکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نامناسب رویہ ہے۔ بچوں کو ملنے والی کامیابی پر انھیں حوصلہ دینا اور مناسب انعام سے نوازنا چاہیے۔ بچوں سے توقعات وابستہ کرتے وقت ان کی صلاحیت، دل، چھپی اور کمزوریوں کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے۔ والدین کو اپنی خواہشات بچوں پر تھوپنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔

۱۶۔ ناکامی کو کامیابی کا زینہ بنانے کی تربیت دینی چاہیے۔ زندگی میں ہر فرد کو کسی نہ کسی بحران سے مقابلہ درپیش رہتا ہے اس لیے نامطلوب حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے بچوں کی ذہن سازی ضروری ہے۔ انھیں مسائل سے فرار کے بجائے ان سے نبردازی ہونے کی تربیت دینی چاہیے۔ عزمِ حکم، عمل، ہیم اور سخت محنت کامیابی کی شرائط ہیں۔ مشکلات کی صورت میں حسب موقع بچوں سے مشاورت بھی ان کی تربیت اور ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے میں معاون ہوتی ہے۔

۱۷۔ بچوں کو اپنی زندگی کے مقصد کا شعور دیا جائے۔ مقصد زندگی کا واضح تصور انھیں دینا میں اپنا مقام متعین کرنے میں مددے گا۔ مستقبل کے لیے بلند عزم اور ان عزمِ ائم کی تمجیل کے لیے بچوں میں شوق، محنت اور جتنوں کے جذبات پیدا کرنے میں والدین کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے۔

۱۸۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین تدریج سے کام لیں، ان کی اصلاح سے مایوس نہ ہوں۔

بچوں کی تربیت نمایادی امور

۲۰۔ بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرانا اور اسوہ رسول کی پیروی کو جزا یمان ہانا، اسی طرح سلف صالحین کی زندگیاں مشعل راہ کے طور پر بچوں کے سامنے لانا ضروری ہے۔

۲۱۔ گھر میں مطالعے کا وقت منعین کر کے والدین اپنی مگرانی میں تعلیمی ادارے کا کام کرواتے ہوئے بچوں کی ترقی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔

۲۲۔ وقت کی تنظیم اور قدر والدین خود بھی کریں اور بچوں کو ابتدا سے ہی وقت کے سچے استعمال کی عادت ڈالیں۔ وقت کا ضایع ناقابلی ملاؤ نقصان ہے۔ اس قسمی دوست کا بہترین استعمال کامیابی کی کلید ہے۔

۲۳۔ تعلیم و تربیت پر خرچ مستقبل کی سرمایہ کاری ہے۔ موجودہ دور کے نہایت مہنگے تعلیمی اخراجات کے پیش نظر مناسب ہو گا کہ ہر خاندان اپنی ماہانہ آمدنی کا ایک مقررہ حصہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کرے۔ اگر بچے چھوٹی جماعتوں میں ہوں تو اس بچی ہوئی رقم کو پس انداز کر کے آئندہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

کارکن اور قیادات سے

تحریک کے تقاضے

حالیہ تناظر میں تحریکی زندگی اور ذاتی تربیت و تزکیہ کے لیے زاد راہ

ہر سطح کے ذمہ دار اور کارکن کے لیے مشعل راہ

(صفحات: ۲۴۲ قیمت: ۱۲۰ روپے)

قرآن پاک کی روشنی میں سیرت پاک کا ایک منفرد مطالعہ
96 صفحات مرک- 25 روپے

اسلامی قیادت

شاہد حسن صدیقی کے قلم سے

پیش نظر: قاضی حسین احمد

سماشی ترقی کے سرکاری و مددوں کی اصل حقیقت

(صفحات: 120 قیمت: 120 روپے)

کتب پر یونیورسٹیز اور اسلامی تحریرات اور مدنی ادارے کریں۔

تحمہ محل میں کی پیش کش

PAKISTAN
Economic Growth
& Stabilization
Myth or Reality?

10 کتب - 500 روپے میں

مشورات

لارڈ - صبورہ میان روڈ فون: 5434909-5425356 میکس: 042-5432194

manshurat@hotmail.com